

# Psa

## Chapter 55

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	לְמַנְצַח	בְּנִינֹת	מִשְׁכִּיל	לְדָוִד:	הַאֲזִינָה	אֱלֹהִים	תִּפְלְתִי	וְאֵל-	אֶתְעַלֵּם	מִתְחַנְתִּי:
	ل-مُنْصَح	ب-نَعْمَات	مَسْكِيل	ل-داؤد	ه-كان-لگا	خدا	دعا-میری	و-آل-	چھپ-جا	من-التجا-میری
	<a href="#">H5329</a>	<a href="#">H5058</a>	<a href="#">H4905</a>	<a href="#">H1732</a>	<a href="#">H0238</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H8605</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H5956</a>	<a href="#">H8467</a>

سے التجا میری کو آپ اپنے دے، دھیان پر دعا میری اللہ، اے ہے۔ گانا ساتھ کے سازوں تاردار گیت یہ کا حکمت لے۔ کے راہنما کے موسیقی زبور۔ کا داؤد رکھ۔ نہ چھپائے

2	הַקְּשִׁיבָה	לִי	וְ-جواب-دے-مجھے	וְ-عֲנֵנִי	אֶרִיד	בְּשִׁיתִי	וְ-אֶהְיֶמָה:
	ه-توجہ-دے	ل-مجھے	و-جواب-دے-مجھے	و-ع-ع-ع	ب-سوج-میری	و-گراہتا-ہوں	
	<a href="#">H7181</a>			<a href="#">H7300</a>	<a href="#">H7879</a>	<a href="#">H1949</a>	

ہوں۔ رہا بھر آپس ہوئے گھومتے ادھر ادھر سے بے چینی میں سن۔ میری کر، غور پر مجھ

3	מְקוֹל	אוֹזִב	מִפְנֵי	עַקְתָּ	רָשַׁע	כִּי-	יִמְיִטּוּ	עָלַי	אֲנִי	וּבְאָזְ
	م-آواز	دشمن	من-سامنے	ظلم	شریر	کیونکہ-	گراتے	علی-مجھ	بدی	و-ب-غصے
	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H6125</a>	<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H4131</a>	<a href="#">H0205</a>	<a href="#">H0639</a>			

یَسْتَمֹנֵי:

دُشْمَنִי-گرتے-مجھ-سے  
[H7852](#)

ہیں۔ رہے کر مخالفت میری میں غصے ہیں، ہوئے ٹلے پر لانے آفت پر مجھ وہ ہے۔ رہا کر تنگ مجھے بے دین رہا، مچا شور دشمن کیونکہ۔

4	לְבִי	יִתְחַל	בְּקִרְבִּי	וְ-אִימוֹת	מָוֹת	נִפְלִי	עָלַי:
	دل-میرا	تڑپتا	ب-اندر-میرے	و-دبشتیں	موت	گریں	علی-مجھ
		<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H0367</a>	<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H5307</a>		

ہے۔ گئی چھا پر مجھ دبشت کی موت ہے، رہا تڑپ اندر میرے دل میرا

5	יְרֵאָה	וְ-קִנְיָ	יָבֵא	בִּי	וְ-תִכְסְּנִי	פְלִצְיוֹת:
	ڈر	و-کانہنا	آیا	ب-مجھ	و-ڈھانپ-لیا-مجھے	لرزش
	<a href="#">H3374</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H3680</a>	<a href="#">H6427</a>	

ہے۔ گئی آ غالب پر مجھ بیبت ہوئی، طاری پر مجھ لرزش اور خوف

6	וְ-אֲמַר	מִי-	יִתֵּן-	לִי	אֶבֶר	כִּי-זִנָּה	אֶעֱוֶפֶה	וְ-אֲשַׁכְּנָה:
	و-گہا-میں-نے	گون-	دے-	ل-مجھے	پر	ک-کیوتر	آز-جاؤں	و-رہوں
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0083</a>	<a href="#">H3123</a>	<a href="#">H7931</a>		

سکوں! یا سکوں و آرام کر اڑ تاکہ ہوں پر سے کے کیوتر میرے [کاش بولا، میں

7	הִנֵּה	אֲרִחִיק	נָדָד	אֲלֵי	בְּמַדְבָּר	סֶלָה:
	دیکھ	دور-بھاگ-جاؤں	آوارہ	رہوں	ب-بیابان	سیلاہ
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H7368</a>	<a href="#">H5074</a>		<a href="#">H5542</a>	

کرتا، بسیرا میں ریگستان کر بھاگ تک دور میں تب

8	אֶחֱיִשָּׁה	מִפְלֹטָ	לִי	מִרוּחַ	סַעֲרָה	מִסְעֵר:
	جلدی-گروں	پناہ	ل-مجھے	من-ہوا	طوفانی	من-اندھی
	<a href="#">H4655</a>		<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H5584</a>		

(سلاہ رہتا۔) محفوظ سے طوفان اور آندھی تیز جہاں لیتا پناہ کہیں سے جلدی میں

9	بِجَاع	أَذِنِي	فَلَانِ	لِشَوْنِهِ	كَيْ-	رَأَيْتِي	حَمْسِ	وَرِيْبٍ	بَعِيرٍ:
	بِجَاع	خداوند	تقسیم-کر	زبان-اُن-کی	کیونکہ-	دیکھا-میں-نے	ظلم	و-جھگڑا	ب-شہر
	H1104	H0136	H6385	H3956		H7200	H2555	H7379	

ہیں۔ آتے نظر جھگڑے اور ظلم طرف ہر میں شہر مجھے کیونکہ ڈال! اختلاف میں زبان کی اُن کر، پیدا ابتری میں اُن رب، اے

10	يَوْمِمْ	وَلَيْلَاهِ	يَسُودِبْهَا	عَل-	حَوْمَاتِيهَا	وَأَنِّي	وَعَمَلًا	بِقَرْبَاهِ:
	دن	و-رات	گھومتے-ہیں-اُس-میں	غل-	دیواریں-اُس-کی	و-بُدی	و-مُشَقَّت	ب-اَنْدَر-اُس-کے
	H3119	H3915	H5437		H2346	H0205	H5999	H7130

ہے۔ رہتا بھرا سے خرابی اور فساد شہر اور ہیں، کائناتے چکر پر فصیل وہ رات دن

11	هِنُوت	بِقَرْبَاهِ	وَلَا-	يَمِيْش	مِنْ-حَوْك-	نَدِي	وَمَرْمُوه:
	بلاکت	ب-اَنْدَر-اُس-کے	و-تھیں-	بفتا	میں-چوک-اُس-کے	دھوکہ	و-فَرِيْب
	H1942	H7130	H3808	H4185	H7339	H8496	H4820

چھوڑتے۔ نہیں کو چوک کے اُس فریب اور ظلم اور ہے، حکومت کی تباہی میں بیچ کے اُس

12	كَيْ	لَا-	أَزِيْب	يَحْرِيفُنِي	وَأَسْأَأ	لَا-	مَسْأَأِي	عَلِي	هَنْدِيل	وَأَسْتَر:
	کیونکہ	نہیں-	دُشْمَن	ملاکت-گرتا-مجھے	و-سَسْتَا	نہیں-	نَفْرَت-گرے-والا-میرا	عَلِي-مُجْه	بِزَائِي-کی	و-جُھب-جاتا
		H3808	H0341	H5375	H3808		H8130		H1431	H5641

مَمْنُونِي:  
مِنْ-اُس

جاتا۔ چھپ سے اُس میں تو کرتا سرفراز کو آپ اپنے کر دبا مجھے والا کرنے نفرت سے مجھ اگر ہوتا۔ برداشت قابل تو کرتا رُسوائی میری دشمن کوئی اگر

13	وَأَتَاهَا	أَنَّوْش	بَعْرَكِي	أَلُوْفِي	وَمِيْدَعِي:
	و-تُو	اِنْسَان	ک-برابر-میرے	رَبْنَمَا-میرا	و-وَاقِف-میرا
		H0582	H6187		H3045

ہے۔ راز ہم اور دوست قریبی میرا جو ہے، جیسا مجھ جو تُو کیا، یہ نے ہی تُو لیکن

14	أَشْر	يَحْدِي	نَمْتِيْكَ	سُود	بَبِيْت	أَلْهِيْم	نَهْلِيْ	بِقَرْبَانِ:
	جو	مِل-کَر	میٹھی-گرتے-تھے	مَشُوْرَت	ب-گھر	خدا	چلتے-تھے	ب-بُجُوْم
			H4985	H5475		H0430	H1980	

گئے! چلتے طرف کی گھر کے اللہ ساتھ کے ہجوم ہم جب تھی رفاقت اچھی کتنی ساتھ تیرے میری

15	[يَسِيْمُوْت]	(يَسِي)	(و) مَوْت	عَلِيْمُو	يَرْدِي	شَاوَل	حَيِيْم	كَيْ-	رَعُوْت	بِمَنْوَرِهِمْ	بِقَرْبَانِ:
	فَرِيْب-بو	اُسے	موت	عَلِي-اُن	اَتْرِيں	پاتال	زنده	کیونکہ-	بُرَائِيَاں	ب-گھر-اُن-کے	ب-اَنْدَر-اُن-کے
	H3451	H5377	H4194	H3381	H7585				H4033	H7130	

ہے۔ لیا بنا گھر اپنا میں اُن نے بُرائی کیونکہ جائیں، اُتر میں پاتال وہ ہی زندہ ہے۔ لے میں گرفت اپنی انہیں ہی اچانک موت

16	أَنِّي	أَل-	أَلْهِيْم	أَقْرَأ	يَهِيْه	يُوشِيْعِي:
	میں	اِل-	خدا	پکاروں	و-يَهُوْه	بچانے-مجھے
	H0589	H0413	H0430	H7121	H3068	H3467

گا۔ دے نجات مجھے رب اور ہوں، مانگتا مدد سے اللہ کر پکار میں لیکن

17	عِيْرَب	وَبَكْر	وَيَحْرِيفِيْم	أَشِيْحَا	وَأَهْمِيْه	وَيَسْمَع	كُوْلِي:
	شام	و-صُبْح	و-دوپہر	قَرِيَاد-گروں	و-گراہوں	و-سُنْه	اَوَاز-میري
		H1242	H7878	H1993	H8085		

گا۔ سنے میری وہ اور شام۔ یا دوپہر خواہ ہو، صبح خواہ ہوں، رہتا کراہتا اور کرتا زاری و آہ وقت ہر میں

18	פָּרָה	בְּשָׁלוֹם	גִּפְשִׁי	מִקְרָב-	לִי	כִּי-	בְּרָכִים	הָיוּ	עִמָּדִי:
	چھڑایا	ب-سلامتی	جان-میری	من-جنگ-	ل-مجھے	کیونکہ-	ب-گفرت	تھے	میرے-ساتھ
	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H7965</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H7128</a>			<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5978</a>	

گا۔ دے سکون و آرام مجھے وہ بے بڑی تعداد کی اُن گو ہیں۔ رہے لڑ خلاف میرے جو گا چھڑانے سے اُن کو جان میری کر دے فدیہ وہ

19	וַיִּשְׁמַע	וְאֵל	וַיַּעֲנֵם	וַיֵּשֶׁב	קָדָם	סֵלָה	אֲשֶׁר	אֵין	תְּלִיפּוֹת	לָמוֹ	וְקָא	וְרָאָו
	سنے	ایل	و-جواب-دے-انہیں	و-بیٹھا	قدیم	سلاہ	جن	نہیں	تبدیلیاں	ل-اُن	و-نہیں	ڈرتے
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0410</a>		<a href="#">H3427</a>		<a href="#">H5542</a>		<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H2487</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3372</a>

אֱלֹהִים:  
خدا  
[H0430](#)

گے۔ مانیں خوف کا اللہ کبھی نہ گے، جائیں ہو تبدیل وہ نہ کیونکہ (سلاہ) گا۔ دے جواب مناسب انہیں کر سن میری بے نشین تخت سے ازل جو اللہ

20	שָׁלַח	יָדָיו	בְּשָׁלוֹמִיו	חָלַל	בְּרִיתוֹ:
	بڑھایا	ہاتھ-اُس-کے	ب-صلح-کرنے-والوں-اُس-کے	توڑ-ڈالا	عہد-اُس-کا
	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H7965</a>		<a href="#">H1285</a>

بے۔ لیا توڑ عہد اپنا نے اُس اُٹھایا، خلاف کے دوستوں اپنے ہاتھ اپنا نے شخص اُس

21	וּחְלָקוֹ	מִחֲמַצֵּת	פִּי	וְקָרַב-	לָבוֹ	רָכוֹ	דְּבָרָיו	מִנְשֵׁמֶן	וְהִנְחָה	פְּתוּחוֹת:
	بموار-تھے	مکھن	منہ-اُس-کا	و-جنگ-	دل-اُس-کا	نرم	الفاظ-اُس-کے	من-تیل	و-وہ	تلواریں
	<a href="#">H4260</a>		<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H7128</a>		<a href="#">H7401</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H6609</a>

بیں۔ تلواریں ہوئی کھینچی میں حقیقت الفاظ نرم زیادہ سے تیل کے اُس بے۔ جنگ میں دل اور باتیں چپڑی چکنی سی کی مکھن پر زبان کی اُس

22	הַשָּׂדֶה	עַל-	וְהִנְחָה	וְהִקְדָּף	וְהוּא	יִכְלֹךְ	לֹא-	יָתֵן	לְעוֹלָם	מוֹט	לְצַדִּיק:
	ڈال-دے	عل-	یہوہ	بوجھ-تیرا	و-وہ	سنہالے-تجھے	نہیں-	دے	ل-بمیشہ	ڈگمگانا	ل-صادق
	<a href="#">H7993</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3053</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3557</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H4131</a>	<a href="#">H6662</a>

گا۔ دے نہیں ڈگمگانے کبھی کو باز راست وہ گا۔ سنہالے تجھے وہ تو ڈال پر رب بوجھ اپنا

23	וְאֵתָה	וְאֱלֹהִים	וְתוֹרָה	לְבָאֵר	נִשְׁחַת	אֲנָשִׁי	דָּמִים	וְמִרְמָה	לֹא-	יִחַצְוִי	יְמִיָּה
	و-تو	خدا	اُتار-انہیں	ل-کنویں	بلاگت	آدمی-	خون	و-دھوکے	نہیں-	آدھے-گریں	دن-اُن-کے
		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H0875</a>	<a href="#">H7845</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H4820</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2673</a>	<a href="#">H3117</a>

יָאֲנִי  
و-میں  
بھروسہ-کروں-  
ب-تجھ  
[H0589](#)  
[H0982](#)

پر تجھ میں لیکن گے۔ مرین جلدی بلکہ گے پائیں نہیں بھی عمر آدھی باز دھوکے اور خوار خوں گا۔ دے اُترنے میں گڑھے کے تباہی انہیں تو اللہ، اے لیکن بوں۔ رکھتا بھروسا